

ROOTWORDS OF SURAH AN NISA 1-3

| | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|----------|---------|
| خَلَقَ+كُمْ | بَثَّ | مِنْ+هُمَا | رِجَالًا | نِسَاءً |
| خ ل ق + ضمیر | ب ث ث | حرف + ضمیر تشبیہ | ر ج ل | ن س و |
| پیدا کیا + تم کو | پھیلا دیے | ان دونوں + سے | مرد | عورتیں |
| created you | dispersed | From both of them | Men | Women |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|
| تَسَاءَلُ-وَنَ | رَقِيبًا | تَتَبَدَّلُ-وَأُ | تَأْكُلُوا | حُوبًا |
| س ا ل - جمع | ر ق ب | ب د ل - جمع | ا ک ل - جمع | ح و ب |
| تم + ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو | نگران | تم بدل کر دو | تم کھاؤ | گناہ |
| You ask | Ever Watchful | Exchange | You consume | A sin |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------|---------|--|
| أَلَّا | تُقْسِطُ وَأُ | طَابَ | مَثْنَى | تَعُولُ-وَأُ |
| حرف + حرف نفی | ق س ط - جمع | ط ي ب | ث ن ي | ع و ل - جمع |
| کہ نہ | تم انصاف کر سکو گے | پسند آئیں | دو دو | تم ایک طرف جھک جاؤ گے۔ تم بے انصافی کرو گے |
| That not | you will be able to do justice | seems suitable | Two | you can do justice |